

13686 - اصحاب کہف کے واقعہ میں کتے کے ذکر کا کیا فائدہ ہے

سوال

اصحاب کہف کے واقعہ میں کتے کے ذکر کا فائدہ کیا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

شیخ شنفیطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی کتاب میں اصحاب کہف کی شان بیان کرتے ہوئے اس کتے کا ذکر کرنا اور اس کا غار کی چوکھٹ پر پاؤں پھیلائے ہوئے ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کا بہت عظیم فائدہ ہے -

ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :

ان کا کتا بھی اس برکت میں شامل ہوا اس حالت میں انہیں جو نیند آئی اس کتے کو بھی اسی طرح نیند حاصل ہوئی ، اور اچھے لوگوں کی صحبت کا یہی فائدہ ہے ، جس کی بنا پر اس کتے کا بھی ان لوگوں ساتھ ذکر اور شان و مقام ہوا ۔ اھ

اور اسی معنی پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے آپ نے اس شخص فرمایا جس نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں ، تو فرمایا ، تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے محبت کرتا ہے - بخاری و مسلم -

تو اس یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں نقصان اور ضرر عظیم ہے ، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان کیا ہے :

ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا ، جو (مجھ سے) کہا کرتا تھا کہ کیا تو (قیامت کے آنے کا) یقین کرنے والوں میں سے ہے ؟ ، کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیئے جانے والے ہں ؟ وہ کہے گا تم جہانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ ، جہانک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے بیچوں بیچ جلتا ہوا دیکھے گا ، کہے گا واللہ ! قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا ، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی درخ



میں حاضر کئے جانے والوں میں ہوتا الصافات (51 - 57) . -